

اعانتی ٹیکنالوجی:

کھیلنے اور سیکھنے میں آپ کے بچے کی مدد کے لیے ٹولز

اعانتی ٹیکنالوجی والے آلات سے ارلی انٹروینشن پروگرام (Early Intervention Program) میں شامل بچوں اور نونہالوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے، ان سے سیکھنے اور ان کے ساتھ میل جول بنانے میں مدد ملتی ہے۔ آلات سادہ یا پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں:

- ◉ سماعتی امدادی آلات
- ◉ بات کرنے اور سمجھنے میں بچوں کی مدد کرنے کے لیے ٹولز
- ◉ جن بچوں کو دیکھنے میں پریشانی ہے ان کے لیے روشنیوں اور آوازوں والے کھلونے
- ◉ حرکی تاخیر میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی اسٹریٹرز، اسٹینڈرز، واکرز اور فیتے
- ◉ خاص چمچے یا پیالیاں جن سے آپ کے بچے کو روزمرہ کی سرگرمیوں میں مدد مل سکتی ہے

مزید جاننے کے لیے، اپنے ارلی انٹروینشن تھیراپسٹ سے بات کریں۔

اگر آپ اور آپ کے ارلی انٹروینشن تھیراپسٹ اس امر پر متفق ہو جاتے ہیں کہ اعانتی ٹیکنالوجی والا آلہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے درست ہو سکتا ہے تو:

- ◉ آپ کی تحریری اجازت سے، آپ کی ارلی انٹروینشن ٹیم کا ایک ممبر ہر آلے کے لیے ایک نسخہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا۔
- ◉ اس کے بعد آپ کی ٹیم درخواست جمع کرائے گی۔
- ◉ ارلی انٹروینشن کے عمل کے ذریعہ درخواست منظور کر لیے جانے پر، ایک ویڈیو آپ کے بچے کے لیے ایک درست آلے کا انتخاب کرنے کے واسطے آپ اور آپ کے تھیراپسٹ کے ساتھ کام کرے گا۔
- ◉ آلہ آپ کو موصول ہو جانے پر، ویڈیو اور آپ کا ارلی انٹروینشن تھیراپسٹ آپ کو اسے بحفاظت استعمال کرنے کا طریقہ بتائے گا۔

آلے کو آزما کر اپنے بچے کے لیے بہترین چیز پتہ کریں۔

کچھ آلات کافی پیچیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر آپ کے بچے کے لیے بہترین آلات کافی سادہ ہو سکتے ہیں، جیسے چپٹے دستے والا چمچ۔

نیو یارک سٹی کا یونائٹڈ سربرینل پالسی (United Cerebral Palsy) کا ٹرایڈ سنٹر (TRAID Center) اعانتی ٹیکنالوجی والے مختلف آلات کی بابت مفت میں جاننے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ آئٹمز ادھار لینے اور اپنے بچے یا نونہال کے ساتھ آزمانے کے لیے بھی دستیاب ہیں۔ اپنے تھیراپسٹ کے ساتھ مل کر، یا اپنے طور پر، آپ شہر پیما TRAID سنٹر سے **718-436-7979**، ایکسٹینشن 711 پر یا **techworks@ucpnyc.org** پر رابطہ کر کے اپنی ضروریات کے بارے میں بات کر سکتے یا آلات کے بارے میں جاننے کے لیے ایک اپائنٹمنٹ طے کر سکتے ہیں۔

